



سوال

مقروض کو قرض کے پيسوں سے زکوٰۃ دینا

جواب

سوال: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ: اگر کسی پر ہمارا قرض ہو اور وہ قرض لینے والا غریب اور زکوٰۃ کا مستحق بھی ہو تو کیا زکوٰۃ تجھنیسے اس کے قرض سے معاف کئے جاسکتے ہیں؟ اور بقایہ قرضہ اس پر برقرار رکھا جائے تو کیا اس عمل سے ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟

جواب:

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!
اگر مقروض تنگ دست اور زکوٰۃ کا مستحق ہو تو مکمل قرض یا قرض کے کچھ حصہ کو اس پر صدقہ (یعنی معاف) کیا جاسکتا ہے بلکہ کرنا چاہئے، اور یہی دین اسلام کا حُسن ہے، اور زکوٰۃ بھی فرضی صدقہ ہے۔ سودی نظام میں تو سود خور کو اپنی رقم سود کے ساتھ ہر حال میں درکار ہوتی ہے خواہ مقروض کو اپنے جسم کا کچھ حصہ کاٹ کر ہی کیوں نہ دینا پڑے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے سود کی مذمت بیان فرماتے ہوئے اسے اللہ تعالیٰ اور ان کے رسول سے جنگ قرار دیا ہے، اور صرف اصل مال ہی واپس لینے کی اجازت مرحمت فرمائی ہے، اور اگر مقروض کیلئے مال واپس کرنا مشکل ہو جائے تو اسے معاف کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ جو ظاہری سی بات ہے کہ فرضی یا نفلی صدقہ سے ہی ہو سکتا ہے۔ فرمان باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ ۲۴۸ ۚ فَإِن لَّمْ تَضَلُّوا فَأَوْذُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ۗ لَا تَقْبَلُونَ وَلَا تَقْبَلُونَ ۚ ۲۴۹ ۚ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ ۱ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ۲۸۰

کہ ”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو، اگر تم سچے ایمان والے ہو (۲۷۸) اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑنے کے لئے تیار ہو جاؤ، ہاں اگر توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی ہے، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا (۲۷۹) اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو اسے آسانی تک ملائی جاوے اور وہ توبہ کرے اور صدقہ کرو تو تمہارے لئے بہت ہی بہتر ہے، اگر تم میں علم ہو۔“
واضح رہے کہ قرض دینے وقت تو نیت قرض ہی کی ہوتی ہے لیکن اس صورت میں مال قرض خواہ کا ہی ہوتا ہے جو اس نے مخصوص مدت کے بعد واپس لینا ہوتا ہے۔ مقروض کی تنگ دستی کی صورت میں وہ فرضی یا نفلی صدقہ کی نیت سے کچھ یا سارا مال ہی معاف کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے جو درج بالا آیت کریمہ کے مطابق بہت فضیلت والی بات ہے۔
البتہ کسی کو تحفہ دینے یا فقیر کو نفلی صدقہ دینے کے بعد چونکہ وہ مال اس کا رہ نہیں جاتا بلکہ مہربان یا فقیر کا بن جاتا ہے، لہذا وہ کچھ عرصہ کے بعد نیت تبدیل کر کے اسے زکوٰۃ قرار نہیں دے سکتا۔

واللہ تعالیٰ اعلم!